



سوال

(566) دعا سراسر عبادت ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعض لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر ہمیشہ یہ شعر پڑھتے ہیں۔ یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ شعر اس طرح ہیں :

إِلٰهِي لَسْتُ لَلْفِرْدَوْسِ اٰهَلًا

وَلَا اَتُوْمِي عَلٰى نَارِ اَنْجِيْمٍ

فَهَبْ لِي تُوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوْبِي

فَاِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيْمِ

”اسی! میں فردوس کے قابل نہیں ہوں اور جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پس مجھے توبہ کی توفیق بخش اور میرے گناہ معاف کر دے۔ تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔“

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے کسی بھی وقت دعا کرنا اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا درست ہے۔ اللہ نے فرمایا :

وَقَالَ رَبُّنَّحْمُ اِذْ عُوْنِي اَنْجَبْ لَنَحْمُ... ۱۰... غافر

”اور تمہارے رب نے فرمایا ہے: ”مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔“

اور فرمایا :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ وَإِنِّي لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ... البقرة ۱۸۶



”جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں (تو فرمائیجئے کہ) میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے“

نبی ﷺ کا ارشاد ہے :

((الدعاء هو العبادة))

”دعا ہی عبادت ہے“

لیکن جمعہ کے دن یہ شعر پڑھنا اور اسے ایک مستقل عادت بنالینا شرعی نہیں بلکہ یہ ممنوعہ بدعتوں میں شامل ہے اور نبی a نے یہ فرمایا ہے :

((مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا بَدَأَ بِأَنْفُسِهِ مِنْهُ فَمَوْزُوْءٌ))

”جس نے ہمارے دین میں وہ چیز لہجادی جو اس میں سے نہیں تو وہ ناقابل قبول ہے۔“

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ دارالسلام

ج 1

محدث فتویٰ